

نارمل انگلش کو ایڈوانس بنائیں

Normal English	Advanced English	Translation
How are you?	How's it going?	آپ کیسے ہیں؟
Are you mad?	Are you out of mind?	کیا تم پاگل ہو؟
It's very cold outside.	It's freezing outside.	باہر بہت سردی ہے۔
Let's meet today.	Let's catch up today.	آج ملتے ہیں۔
Can I come tomorrow.	Can I drop in tomorrow.	کیا میں کل آسکتا ہوں؟
I like you a lot.	I'm so into you.	میں آپکو بہت پسند کرتا ہوں۔
Stop wasting time.	Stop faffing around.	وقت مت ضائع کریں۔
You are so lucky.	You are so jammy.	بہت خوش قسمت ہیں آپ۔
I'm very tired.	I'm worn out.	میں بہت تھک گیا ہوں۔
It's time to study.	It's time to hit the books.	پڑھائی کا وقت ہو چاہتا ہے۔
Stop interfering.	Stop meddling.	مداخلت مت کریں۔
I am going to sleep.	I am off to bed.	میں تو چلا سونے۔
Let's start.	Let's kick off.	چلیں شروع کرتے ہیں۔
I am leaving.	I am off.	میں تو چلتا ہوں۔
I'm interested in it.	I'm into it.	مجھے اس میں دلچسپی ہے۔

نارمل انگلش کو ایڈوانس بنائیں

Normal English	Advanced English	Translation
I am listening.	I'm all ears.	میں سن رہا ہوں۔
I am very hungry.	I am famished.	مجھے بہت بھوک لگی۔
I'm very busy.	I'm swamped.	میں بہت مصروف ہوں۔
She is very angry.	She's pissed off.	وہ بہت غصے میں ہے۔
It's not difficult.	It's not rocket science.	یہ مشکل نہیں ہے۔
Keep it a secret.	Keep it under wraps.	اسے راز رکھنا۔
Don't annoy me.	Don't drive me crazy.	مجھے پریشان مت کرو۔
First you!	After you!	پہلے آپ!
I fell asleep.	I nodded off.	میں سو گیا۔
I'm very excited.	I'm pumped up.	میں بہت پر جوش ہوں۔
Do not touch!	Hands off!	ہاتھ مت لگاؤ۔
Me too!	So am i.	میں بھی!
I'm very happy.	I'm over the moon.	میں بہت خوش ہوں۔
Do it slowly.	Do slowly.	آہستہ کرو۔
I'm very nervous.	I have butterflies.	میں کافی پریشان ہوں۔